



# النَّزَعَتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں۔

وَالنَّزَعَتِ غُرَقًا ۝۱

اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں۔

وَالنَّشِطِ نَشْطًا ۝۲

اور انکی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔

وَالسَّيْحَتِ سَبْحًا ۝۳

پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔

فَالسَّيْقَتِ سَبْقًا ۝۴

پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔

فَأُمْدِ بَرَّتِ أَمْرًا ۝۵

کہ وہ دن آکر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آنے گا۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝۶

تَتَّبِعَهَا الرَّادِفَةُ ط

پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آنے گا۔

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ط

اس دن لوگوں کے دل خوفزدہ ہوں گے۔

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ط

اور آنکھیں جھکی ہوئی۔

يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي  
الْحَافِرَةِ ط

کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟

ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ط

بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر  
زندہ کئے جائیں گے۔

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ط

کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سر اسر نقصان کا لوٹنا ہو گا۔

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ط

تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ط

اس وقت وہ سب میدان حشر میں آجمع ہوں  
گے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ط

بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے۔

جب ان کے پروردگار نے انکو پاک میدان یعنی  
طوی میں پکارا۔

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ  
طَوًى

اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو  
رہا ہے۔

إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو  
جائے۔

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى

اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ  
تجھ کو خوف پیدا ہو۔

وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى

غرض انہوں نے اسکو بہت بڑی نشانی  
دکھائی۔

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى

مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔

فَكَذَّبَ وَعَصَى

پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى

سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا پھر بلند آواز سے  
بولا۔

فَحَشَرَ فَنَادَى

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ <sup>ط</sup>  
﴿٢٤﴾

سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْرِطَةِ  
وَالأُولَىٰ <sup>ط</sup>  
﴿٢٥﴾

تو اللہ نے اسکو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ <sup>ط</sup>  
﴿٢٦﴾

جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لئے اس قصے میں عبرت ہے۔

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ <sup>ط</sup>  
بَنِيهَا <sup>وقفہ</sup>  
﴿٢٧﴾

بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسکو بنایا۔

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا <sup>لا</sup>  
﴿٢٨﴾

اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔

وَ أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ  
صُبْحَهَا <sup>ص</sup>  
﴿٢٩﴾

اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔

وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا <sup>ط</sup>  
﴿٣٠﴾

اور اسکے بعد زمین کو پھیلا دیا۔

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَ مَرَعَهَا <sup>ص</sup>  
﴿٣١﴾

اسی نے زمین میں سے اسکا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔

اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔

وَالْجِبَالِ أَمْسَاهَا<sup>لا</sup>

یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لئے کیا۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ<sup>ط</sup>

پھر جب وہ بہت بڑی آفت آنے لگی۔

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى<sup>صلے</sup>

اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا۔

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى<sup>لا</sup>

اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى<sup>ط</sup>

اب جس نے سرکشی کی۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَى<sup>لا</sup>

اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا۔

وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>لا</sup>

تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى<sup>ط</sup>

اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى<sup>ط</sup>  
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى<sup>لا</sup>

تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى<sup>ط</sup>

اے پیغمبر ﷺ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا<sup>ط</sup>

سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟

فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا<sup>ط</sup>

اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا<sup>ط</sup>

جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَّحْشَاهَا<sup>ط</sup>

جب وہ اسکو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صُحْبَةً<sup>ع</sup>

